















کے لیے، ہمیں اپنی زندگیوں میں کچھ اور کچھ کرنا پڑے گا۔



پہلی شیفٹی - 11:00 بجے سے 12:30 بجے تک، دوسری شیفٹی - 3:30 بجے سے 4:00 بجے تک

تیسری شیفٹی - 11:00 بجے سے 11:30 بجے تک، چوتھی شیفٹی - 3:30 بجے سے 4:00 بجے تک

پنجمی شیفٹی - 3:30 بجے سے 4:00 بجے تک



شام کی شیفٹی - 7:00 بجے سے 7:45 بجے تک